

Joint Press Release of the 12th meeting of the India-Australia Joint Working Group on Counter-Terrorism

December 17, 2020

انسداد دہشت گردی سے متعلق ہندوستان آسٹریلیا جوائنٹ ورکنگ گروپ کے 12 ویں اجلاس کا مشترکہ پریس ریلیز

17 دسمبر، 2020

انسداد دہشت گردی سے متعلق ہندوستان آسٹریلیا جوائنٹ ورکنگ گروپ کا 12 واں اجلاس ورچوئل طریقے سے 17 دسمبر 2020 کو منعقد کیا گیا۔ بھارتی وزارت خارجہ میں انسداد دہشت گردی کے جوائنٹ سیکریٹری جناب مہاویر سنگھوی اور آسٹریلیائی محکمہ برائے امور خارجہ اور تجارت میں بین الاقوامی سلامتی، انسانی ہمدردی اور قونصلر گروپ کے ڈپٹی سیکریٹری جناب ٹونی شیہان نے دونوں ممالک کے مابین انسداد دہشت گردی سے متعلق تعاون پر تبادلہ خیال کے لئے ماہرین کے متعلقہ وفود کی سربراہی کی۔

دونوں فریقین نے 4 جون 2020 کو منعقدہ رہنماؤں کے ورچوئل سمٹ میں وزیر اعظم مودی اور ماریسن کے ذریعہ جمہوریہ ہند اور آسٹریلیا کے مابین ایک جامع اسٹریٹجک شراکت داری کے مشترکہ بیان میں دہشت گردی سے لڑنے کے لئے کوارڈینیشن اور تعاون کے عزم پر زور دیا۔

ہندوستان اور آسٹریلیا نے دہشت گردی کی اس کے تمام شکلوں اور مظاہر کی شدید مذمت کی اور جامع اور پائیدار انداز میں دہشت گردی سے نمٹنے کے لئے بین الاقوامی تعاون کو مضبوط بنانے کی ضرورت پر زور دیا۔ دونوں فریقین نے سرحد پار سے جاری دہشت گردی کے لئے دہشت گردوں کے پراکسیوں کے استعمال کی مذمت کی۔

دونوں فریقین نے اقوام متحدہ کی طرف سے پابندی لگائے گئے دہشت گردوں کی طرف سے درپیش خطرات کا جائزہ لیا، اور تمام دہشت گرد نیٹ ورکوں کے خلاف ٹھوس کارروائی کی ضرورت پر زور دیا۔ دونوں فریقین نے دہشت گردی سے نمٹنے کے لئے دہشت گرد افراد اور اداروں پر پابندی کو بطور آلہ کار استعمال کرنے پر بھی تبادلہ خیال کیا۔

ہندوستان اور آسٹریلیا نے تمام ممالک کی طرف سے فوری، مستحکم، قابل تصدیق اور ناقابل واپسی کارروائی کرنے کی فوری ضرورت پر زور دیا، تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ان کے زیر تسلط کوئی بھی علاقہ دہشت گردانہ حملوں کے لئے استعمال نہ کیا جائے اور ایسے حملوں کے مرتکب افراد کو جلد انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے۔ آسٹریلیا نے 11/26 ممبئی، پٹھان کوٹ اور پلوامہ سمیت بھارت میں دہشت گردی کے حملوں کی مذمت کا اعادہ کیا، اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں عوام اور حکومت ہند کے لئے اپنی حمایت کا اعادہ کیا۔

ہندوستان اور آسٹریلیا نے بنیاد پرستی اور پرتشدد انتہا پسندی کا مقابلہ کرنے، دہشت گردی کے مالی اعانت سے مقابلہ کرنے، دہشت گردی اور پرتشدد انتہا پسندی کے لئے انٹرنیٹ کے استحصال کو روکنے، قانون نافذ کرنے والے اداروں کے تعاون، معلومات شیئر کرنے اور صلاحیت سازی سمیت انسداد دہشت گردی کے میدان میں تعاون کے مختلف پہلوؤں پر تبادلہ خیال کیا۔ اس بات چیت میں دہشت گردی سے لڑنے کے لئے کووڈ-19 وبائی مرض کی طرف سے درپیش چیلنجز کا بھی تذکرہ کیا گیا۔

دونوں فریقین نے ان چیلنجز کے رسپانس کے لئے مل کر کام کرنے کا عزم کیا، اور انسداد دہشت گردی کے میدان میں رابطہ قائم کرنے، تعاون اور معلومات کے تبادلے کو آگے بڑھانے کے لئے اپنے متعلقہ ایجنسیوں کے مابین تعلقات کو مزید گہرا کرنے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔

دونوں فریقین نے کثیر الجہتی فورم جیسے اقوام متحدہ، جی 20، جی سی ٹی ایف، اے آر ایف، آئی او آر اے، اور ایف اے ٹی ایف کے علاوہ آسٹریلیا-ہندوستان-جاپان-امریکہ کے مابین مشاورت میں انسداد دہشت گردی تعاون پر تبادلہ خیال کیا، اور اس تعاون کو مزید بڑھانے کے طریقوں پر بھی تبادلہ خیال کیا۔

نئی دہلی

17 دسمبر، 2020

DISCLAIMER: This is an approximate translation. The original is available in English on MEA's website and may be referred to as the official press release.